

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. محمود الرشيدان
وعضوية القضاة السادة

نسيم نصر اوي ، محمد سعيد الشريدة ، محمد الحوامدة ، قاسم المومني

الممرزتان :- ١.

٢. شركة

وكيلتهما المحامية

الممرز ضده :- الحق العام / مدعي عام الجمارك

بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١١ قُدم هذا التمييز للطعن في

القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية رقم ((٢٠٠٨/١٥٤)) تاريخ
٢٠٠٩/١/٢١ المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

وتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

١. أخطأت المحكمة بتولها أن جرم التهريب الجمركي مقترض مخالفة بذلك أحكام المادة
٢٠٥ من قانون الجمارك التي اشترطت صراحة عنصر القصدية .

٢. أخطأت بالحكم بمسؤولية المميزتين على سند من ملكية البضاعة بالنسبة للأولى
والوكالة بالتخليص بالنسبة للثانية مخالفة بذلك نص المادة ٢٠٥ من قانون الجمارك .

٣. أخطأت المحكمة بأن بنت حكمها على عدم توافر شرط القوة القاهرة .

•

...
...
...
...

•

...
...
...
...

:-

•

...
...
...

lawpedia.jo

:-

...

•

...

•

• اہل حق اور اہل باطل کے درمیان

جنگ ہے۔ اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

• اہل حق کو فتح حاصل ہوگی اور اہل باطل کو شکست کھانی ہوگی۔

lawpedia.jo

Handwritten signature and text in Arabic, including the date 2/1/14.

Handwritten signature and text in Arabic.

Handwritten text in Arabic, possibly a date or reference number: ٢٠٠٩/٧/٢

Handwritten text in Arabic: .

Handwritten text in Arabic: وازداد